



سینٹرل پنجاب نے سندھ کو باآسانی 8 وکٹوں سے ہرا دیا

راولپنڈی، 6 اکتوبر 2021ء:

نیشنل ٹی ٹونٹی کے لاہور میں شروع ہونے والے دوسرے مرحلے کے پہلے میچ میں ہوم سٹی سینٹرل پنجاب نے ٹیل ٹاپر جی ایف ایس سندھ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔

سینٹرل پنجاب کی نیشنل ٹی ٹونٹی میں یہ پانچویں فتح ہے۔ سنٹرل پنجاب کی فتح میں حسین طلعت اور شعیب ملک نے مرکزی کردار ادا کیا۔

سنٹرل پنجاب کو میچ جیتنے کے لئے 129 رنز کا ہدف ملا جو اس نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 4 . 15 اوورز میں پورا کر لیا۔

حسین طلعت اور شعیب ملک نے ناقابل شکست اننگز کھیلیں۔ حسین طلعت کی 52 گیندوں پر 68 رنز کی اننگز میں آٹھ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔

شعیب ملک نے چار چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 25 گیندوں پر 40 رنز بنائے۔

سنٹرل پنجاب کے پہلے آؤٹ ہونے والے بیٹسمین کامران اکمل صرف ایک رن بنا سکے جبکہ احمد شہزاد چودہ گیندوں پر 20 رنز کی اننگز کھیل کر پویلین لوٹے وہ رن آؤٹ ہوئے۔

اس سے قبل جی ایف ایس سندھ نے سینٹرل پنجاب کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کی تو کپتان سرفراز احمد کے علاوہ سندھ کا کوئی بھی بیٹر لمبی اننگز کھیلنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔

سندھ کی آدھی ٹیم محض 67 رنز پر آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ چکی تھی۔ ایسے میں سرفراز احمد نے 37 گیندوں پر پانچ چوکوں اور ایک چھکے کی بدولت 54 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔

کپتان سرفراز احمد سمیت سندھ کے صرف چار کھلاڑی ڈبل فگرز میں داخل ہوسکے۔ احسان علی 23 جبکہ دانش عزیز اور انور علی 20، 20 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

سندھ نے مقررہ بیس اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 128 رنز بنائے۔ فہیم اشرف اور حسن علی نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Assistant Manager - Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and promotion of the game of cricket in Pakistan.

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer.

The PCB's mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its winning teams and by providing equal playing opportunities to all.

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and pathways framework, inspiring generations through our women's game, growing and diversifying commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan.

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

HELP PREVENT CORONAVIRUS

Shaukat Khanum
Memorial Cancer Hospital
and Research Centre



WASH HANDS
THOROUGHLY



KEEP YOUR
DISTANCE



AVOID CROWDED
PLACES



WEAR
A MASK



COUGH & SNEEZE INTO
A TISSUE OR ELBOW



STAY
HYDRATED



STAY AT HOME
IF YOU FEEL ILL

Commercial Partners



Broadcast & Live Streaming Partners



PCB Headquarters

Gaddafi Stadium, Ferozpur Road Lahore, Pakistan, PO Box 54000
Tel: +92 42 35717231-4

